

دایاں ہاتھ کھانے اور بایاں ہاتھ ٹوئیلٹ کے لیے کیوں استعمال کیا جاتا ہے
الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ
مسلمان کھانے کے لیے سیدھا ہاتھ اور استنجاء کے لیے الٹا ہاتھ کیوں استعمال کرتے
ہیں۔ اس کی کوئی لوچک بھی بیان کردی جائے تو کرم ہوگا۔

سائل: وقار فرام انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

نبی اکرم ﷺ کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ وہ کھانا کھانے، پانی پینے اور اس طرح
کے دیگر کاموں کے لیے دایاں ہاتھ استعمال فرماتے اور اس کی ترغیب ارشاد فرماتے
تھے۔

جیسا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: "لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ، وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ
الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ." تم میں ہر
شخص کو چاہیئے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے پیئے، دائیں ہاتھ سے
لے، دائیں ہاتھ سے دے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے
پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے لیتا ہے۔

(سنن ابن ماجہ کتاب الاطعمہ باب الاكل باليمين رقم 3266)

اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا "لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ" بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، اس
لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔

(سنن ابن ماجہ کتاب الاطعمہ باب الاكل باليمين رقم 3268)

اور ایسے ہی گندگی والے کاموں استنجاء وغیرہ کو الٹے ہاتھ سے کرنے کی ترغیب
احادیث میں موجود ہے۔ اس لیے مسلمان ایسا کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابوہریرہ
رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "إِذَا اسْتَنْجَأَ أَحَدُكُمْ
فَلَا يَسْتَنْجِئُ بِيَمِينِهِ لِيَسْتَنْجِئَ بِشِمَالِهِ" جب کوئی شخص استنجاء کرے تو داہنے ہاتھ سے
نہ کرے، بلکہ بائیں ہاتھ سے کرے۔ (سنن ابن ماجہ کتاب الطهارة و سننها رقم 312)

اس کے پیچھے حکمت یہ ہوسکتی ہے کہ تاکہ استنجاء یا اس طرح کے گندگی کے
کاموں کے لیے جو ہاتھ استعمال ہوا ہے وہ کھانے، پینے یا اس جیسے اچھے کاموں
کے لیے استعمال نہ کیا جائے تاکہ کھانے پینے کے لیے خوب صفائی
اختیار کیا جاسکے۔

وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Date: 10-11-2017

Why is the right hand used for eating and the left for the washroom?

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

QUESTION:

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding the following issue: Why do Muslims use their right hand when eating and left to wash themselves when in the lavatory. Please could you also mention the logic to this; it would be very much appreciated.

Questioner: Waqar from U.K.

ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

It is established from the Sunnah of the Noble Prophet ﷺ that he ﷺ would use his blessed right hand to eat food, drink water and other acts such as these, and he ﷺ would also encourage others to do so also.

Just as Sayyidunā abū Hurayrah, may Allāh be pleased with him, mentions that the Noble Prophet ﷺ stated that,

"لِيَأْكُلَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ، وَلِيَشْرَبَ بِيَمِينِهِ، وَلِيَأْخُذَ بِيَمِينِهِ، وَلِيُعْطِيَ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ"

"Each and every one of you should eat with the right hand, drink with the right hand, take with the right hand, give with the right hand. This is because Satan eats with the left hand, drinks with the left hand, gives with the left hand and takes with the left hand."

[Sunan Ibn Mājah, Hadīth no 3266]

Similarly, Sayyidunā Jābir, may Allāh be pleased with him, mentions that the Noble Messenger of Allāh ﷺ stated,

"لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ"

"Do not eat with the left hand because Satan eats with the left hand."

[Sunan Ibn Mājah, Hadīth no 3268]

Likewise, the encouraging of the usage of the left hand for unsanitary matters, cleaning oneself in the lavatory, etc is present in Hadīths; this is why Muslims do so.

Just as Sayyidunā abū Hurayrah mentions that the Messenger of Allāh ﷺ stated,

"إِذَا اسْتَتَابَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسْتَتِبْ بِيَمِينِهِ لِيَسْتَنْجَ بِشِمَالِهِ"

"Whenever someone cleans themselves in the washroom, they should not do so using the right hand. Rather, they should use the left hand."

[Sunan Ibn Mājah, Hadīth no 312]

This wisdom behind this could be that the hand which is used for eating, drinking, and other similar good actions is not used for cleaning oneself in the washroom and other unsanitary matters, so that the utmost cleanliness can be undertaken when eating and drinking.

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by Haider Ali